

## سجدہ

سجدہ میں جاتے ہوئے اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہیں

سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں پھر دونوں ہاتھ پھر ناک اور پھر پیشانی، سجدہ کے دوران پیٹ رانوں سے اور دونوں بازو بغل سے نہ ملے ہوں، دونوں ہاتھ اور پیر کی انگلیاں قبلہ رخ رہنا چاہئے۔

کم از کم پیر کی تین انگلی زمین پر ٹکی ہونی چاہئے

سجدہ میں جانے کے بعد (کم از کم) تین مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔

سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى  
پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند۔

